

برائے فوری اجراء

## اس موسم گرما میں برامپٹن کئی نئی تقریبات کے ساتھ پرائیڈ کو منانے جا رہا ہے

برامپٹن، آن (18 جون 2019) – رہائشیوں اور سیاحوں کو ان گرمیوں میں تین تقریبات کے ساتھ برامپٹن کی LGBTTIQ2SA کمیونٹی کی خوشیاں منانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، جن میں سے دو تقریبات پہلی مرتبہ منعقد کی جا رہی ہیں!

برامپٹن کی پرائیڈ تقریبات کی تفصیلات یہ ہیں:

### مینر براؤن اینڈ کونسل لو از لو از پرائیڈ پریڈ پریڈ پارٹی | 22 جون

ہمارے ساتھ بروز ہفتہ مورخہ 22 جون کو دن 2 سے شام 4 بجے تک سٹی ہال میں اب تک کی پہلی مینر براؤن اینڈ کونسل لو از لو از پرائیڈ پریڈ پریڈ پارٹی میں شامل ہوں۔ اس خاندان دوست تقریب میں ڈی جے، ریفریشمنٹس اور غباروں کے فنکار شامل ہوں گے۔ تمام لوگوں کو اگلے دن، بروز اتوار مورخہ 23 جون کو ٹورانٹو پرائیڈ پریڈ میں غباروں سے بنی ہوئی کوئی دلچسپ چیز لے کر جانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ پارٹی میریڈین کریڈٹ یونین کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہے۔

شرکت کرنے کے لیے [ہیں](#) رجسٹر کریں۔

### مینر براؤن اور کونسل کے ساتھ ٹورانٹو پرائیڈ پریڈ | 23 جون

بروز اتوار مورخہ 23 جون کو آزادی، اظہار، محبت اور باہمی افہام و تفہیم کو منانے کے لیے مینر پیٹرک براؤن اور کونسل کے ساتھ مل کر ٹورانٹو پرائیڈ پریڈ — شمالی امریکہ میں سب سے بڑی تقریبات میں سے ایک — میں برامپٹن کی نمائندگی کریں۔ اگر آپ مینر اور کونسل کے ساتھ مرکزی مارچ کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ایک گلابی شرٹ پہنیں اور مینر اور کونسل کے ساتھ ٹیڈ راجرز وے اور بلور اسٹریٹ پر دن 1:15 پر ملاقات کریں۔

مکمل تفصیلات کے لیے، [ہیں](#) کلک کریں۔

### پرائیڈ ان دی اسکوائر | 7 جولائی

مسلحہ دوسرے سال کے لیے، برامپٹن پرائیڈ ان دی اسکوائر کا انعقاد کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بروز اتوار مورخہ 7 جولائی کو دن 2 سے رات 9 بجے تک گارڈن اسکوائر میں شامل ہوں اور فنون، مظاہروں اور خاندان دوست پروگراموں کے ذریعے پرائیڈ کو منائیں۔ کئی مختلف نمائش کاروں کو دیکھیں اور براہ راست تفریح، جس میں بیڈ لائینر ٹو اٹیجڈ اور فنکار فے اینڈ فلکی، فلائی لیڈی ڈی اور کوارٹر بیک نمایاں طور پر شامل ہوں گے، سے لطف اندوز ہوں۔ روز تھیٹر پیشیو میں رات 7 سے 9 بجے تک ڈی جے چپی نان اسٹاپ کے ساتھ آفٹر پارٹی کا لطف اٹھانا ہر گز نہ بھولیں۔

مکمل تفصیلات کے لیے، [ہیں](#) کلک کریں۔

ان پرجوش تقریبات کے متعلق مکمل تفصیلات کے لیے [www.brampton.ca/pride](http://www.brampton.ca/pride) ملاحظہ کریں۔

ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔

اقتباس

"میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس سال برامپٹن کی تین پرائیڈ تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دو بالکل نئی تقریبات کے ساتھ، ہماری پرائیڈ کی تقریبات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ برامپٹن کی ہماری اس گلدستہ نما متنوع کمیونٹی میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں تمام لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور LGBTTIQQ2SA کے ایک قیمتی رکن یا ایک اتحادی کے طور پر اپنی حمایت ظاہر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)